

## عمائدین ضلع کے نیٹ ورک کا اجلاس

تعلیمی اصلاحات: صوبائی حلقوں کی تعلیمی درجہ  
بندی کا جائزہ

عمائدین ضلع کے نیٹ ورک کا اجلاس  
ضلع رحیم یار خان

## پس منظر:

جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ پاکستان میں شعبہ تعلیم کو گونا گوں مسائل کا سامنا ہے اور ہمارا ملک اس حوالے سے ترقی کی وہ منازل طے نہیں کر سکا جو کہ 1947 سے لے کر اب تک کرنی چاہیں تھیں۔ اس مسئلہ کی طرف نظر دوڑائیں تو بہت سی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ اہم وجوہات میں شعبہ تعلیم کو مختص کردہ وسائل میں کمی کے ساتھ ساتھ فراہم کردہ وسائل کے موثر استعمال کا فقدان اور علمی و تحقیقی اداروں کا ریاستی اداروں، سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں سے گہرا ربط نہ ہونا ہے۔ شعبہ تعلیم کو درپیش مسائل اور سیاسی عمل میں آج تک ایک موثر تعلق قائم نہیں ہو سکا اس ضمن میں سیاسی جماعتوں اور عوامی نمائندوں کو شعبہ تعلیم کے مسائل سے آگاہ کرنا اور ان مسائل کے حل کے عمل میں شامل کرنا از حد ضروری ہے۔

انسٹیٹوٹ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز قومی تحقیقی ادارہ ہے جو کہ علم ائیڈیاز کے اشتراک سے جنوبی پنجاب کے تین اضلاع رحیم یار خان، لودھراں اور مظفر گڑھ میں تعلیمی صورتحال کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کاوش کا مقصد شعبہ تعلیم کے تکنیکی اور سیاسی پہلوؤں کو ہم آہنگ کرنا ہے تاکہ ہمارے سیاسی اکابرین اپنی اس اہم ترین ذمہ داری سے کماحقہ عہدہ برآ ہوسکیں جو آئین پاکستان کی رو سے ان پر عائد ہوتی ہے اور جس کے بغیر شعبہ تعلیم کو درپیش مسائل میں کمی ممکن نہیں۔ سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتیں نہ صرف تعلیمی پالیسی سازی کی ذمہ دار ہیں بلکہ اس پالیسی سازی کو کامیابی کے ساتھ لاگو کرنے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ عوامی نمائندوں اور دیگر متعلقین کی حمایت کے بغیر معنی خیز اور مثبت نتائج حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس تناظر میں یہ ضروری ہے کہ صوبائی حلقہ جات میں تعلیمی صورتحال کے بارے میں متعلقین اور عوامی نمائندگان کو بہتر طور پر آگاہ کیا جائے۔

آپ بطور ممبر ضلعی تعلیمی نیٹ ورک کے گزشتہ اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ جن میں ششماہی بنیاد پر تیار کردہ صوبائی حلقوں کی درجہ بندی کے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کئے گئے اور ان میں بہتری کے لئے آپ سے رہنمائی بھی حاصل کی گئی۔ اسی تسلسل میں انسٹیٹوٹ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز نے تعلیمی اعداد و شمار کا صوبائی حلقہ جاتی درجہ بندی کارڈ برائے ششماہی جولائی تا دسمبر 2014 تیار کیا ہے جو کہ اس اجلاس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور آپ کی رہنمائی سے اس درجہ بندی میں بہتری کے لئے موثر حکمت عملی تیار کی جائے گی۔

## مقاصد:

- اس مشاورت کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں:
1. صوبائی حلقہ جاتی درجہ بندی کا جائزہ اور گزشتہ ششماہی کی درجہ بندی سے موازنہ
  2. عمائدین ضلع کا تعلیم کے بارے میں مجوزہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال

### شرکاء:

اس مشاورت کے شرکا میں سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، سکول کونسل، والدین، اور میڈیا کے چیدہ چیدہ نمائندے شرکت کریں گے